



رسول اللہ ﷺ رات کے شروع حصہ میں سو جائے اور رات کے آخری حصہ میں بیدار ہو کر نماز پڑھے

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے شروع حصہ میں سو جائے اور رات کے آخری حصہ میں بیدار ہو کر نماز پڑھے۔
[صحیح] [متفق علیہ]

عائشہ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عشا کی نماز کے بعد رات کے ابتدائی حصہ میں سوتے اور آخری حصہ یعنی دوسری تہائی میں قیام کرتے تھے جب نماز سے فارغ ہوتے، تو اپنے بستر پر سونے کے لیے آجاتے؛ تاکہ قیام اللیل کی وجہ سے جسم کی تھکاوٹ سے بدن کو آرام مل جائے۔ رات کا آخری چھٹا حصہ ہوتا اس میں کار فرما مصالح میں سے ایک مصلحت یہ ہوتی کہ نماز فجر اور صبح کے اذکار کا استقبال پوری چستی اور توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ریا و نمود کی آلائشوں سے دور رہنے کا بھی ذریعہ ہے؛ کیوں کہ جو رات کے آخری چھٹے حصہ میں سو جائے گا، وہ پوری تازگی اور توانائی کے ساتھ صبح کرے گا۔ ایسے میں اس کی رات کی عبادت مخفی رہے، اس کے امکانات زیادہ رہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ پہلی اذان کا مقصد سونے والے کو جگانا اور قیام کرنے والے کو لوٹانا ہے یعنی قیام کرنے والا نیند کی طرف لوٹ جائے؛ تاکہ اس کا جسم قوت و نشاط حاصل کر لے۔ نیز سونے والا بیدار ہو کر نماز کی تیاری کر لے نیز وتر پڑھ لے، اگر شروع رات میں نہیں پڑھا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4247>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

